

نَمَدْ بِنْ أَوْلَادْ فَيْرَقْ رَهْ لَوْرَه
كَفَرْدَهْ نَمَدْ كَبَّهْ دَفْ نَمَادْهْ لَوْرَه

Szabály birtok
Né dem ki Sínes

A single melodic line is written on five horizontal staff lines. The music uses a soprano C-clef, common time, and a key signature of one sharp. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with some quarter notes and rests. The score consists of two measures of music.

A handwritten musical score for a string quartet, featuring four staves of music on five-line staff paper. The notation includes various note heads, stems, and rests, typical of classical music notation.

A handwritten musical score on a single five-line staff. The notation uses vertical strokes of varying lengths and horizontal dashes to represent pitch and rhythm. There are six measures in total, separated by vertical bar lines. The first measure starts with a short vertical stroke above the staff. The second measure begins with a vertical stroke below the staff. The third measure starts with a vertical stroke above the staff. The fourth measure begins with a vertical stroke below the staff. The fifth measure starts with a vertical stroke above the staff. The sixth measure begins with a vertical stroke below the staff.

A handwritten musical score page featuring a single staff with ten measures. The music is written in common time with a key signature of one sharp. Measures 1-4 contain eighth-note patterns primarily consisting of eighth-note pairs and sixteenth-note pairs. Measures 5-8 show eighth-note patterns with some sixteenth-note pairs and grace notes. Measures 9-10 conclude with eighth-note patterns.

A page from a handwritten musical manuscript. It features two staves of music. The first staff consists of vertical stems with horizontal dashes at the top, representing a rhythmic value. The second staff consists of horizontal stems with vertical dashes at the top. Both staves have four lines and a single space.

A musical staff consisting of five horizontal lines. The notes are represented by vertical stems pointing upwards. There are six stems in total, indicating six quarter notes. The stems are positioned at different heights along the staff.

A handwritten musical score on five-line staff paper. The score consists of two measures. Measure 10 begins with a rest followed by a sixteenth-note pattern of B, A, G, and F. Measure 11 begins with a eighth-note G, followed by a sixteenth-note pattern of G, F, E, and D, and ends with a fermata over the last note.

A handwritten musical score consisting of a single melodic line on five-line staff paper. The music is written in common time (indicated by 'C') and includes various note heads, stems, and rests. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with some quarter notes and rests. The score is written in black ink on white paper.

A handwritten musical score consisting of a single melodic line on five-line staff paper. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, with some quarter notes and rests. The music is divided into measures by vertical bar lines. There are several slurs and grace marks above the notes. Some notes are crossed out with a diagonal line. The handwriting is in black ink.

A handwritten musical score for a single melodic line. The score consists of two systems of music. The first system starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. It contains six measures of music, each featuring eighth-note patterns such as eighth-note pairs and sixteenth-note groups. The second system begins with a bass clef, a key signature of one sharp (F#), and a common time signature. It contains five measures of music, each featuring eighth-note patterns. The notation uses vertical stems and horizontal bar lines to indicate pitch and rhythm.